



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

PRESS RELEASE

For immediate release

May 3, 2023

SECP Introduces Regulatory Framework for ‘Online Only’ Brokers

ISLAMABAD, May 3: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has approved the regulatory framework for online only brokers through amendments to the Pakistan Stock Exchange (PSX) Rulebook, paving the way for the launch of Online Only Brokers in Pakistan.

Cognizant of growing demand for online investing platforms, the SECP is committed to promoting innovation in the securities market while ensuring investor protection. This regulatory framework is a significant step towards achieving that goal.

Under the new regime, the customer onboarding process will be conducted online and the Online Only brokers will be able to provide trading services to its clients, exclusively through online means.

The Online Only Brokers will be a sub-category of Trading Only brokers. As a result, the custodial and clearing services will be performed by Professional Clearing Member, resulting in significantly less compliance and operational requirements, thereby allowing the brokers to concentrate on their core competencies of brokerage services and distribution. This will enable new entrepreneurs to start brokerage business at lower preliminary and operational costs. The new category will also attract new investors in capital market as it offers greater convenience for managing investments via online means.

The framework includes net worth requirements of PKR 7.5 million and a single member company is also eligible to apply. SECP has also notified license issuance and renewal fees at PKR 50,000 and PKR 25,000 respectively for Online Only Brokers. Moreover, existing brokers may also switch to this new category to lower their overhead costs and to remain focused on the core business of trading.

The launch of Online Only brokers is expected to revolutionize the way investors buy and sell securities by providing a new level of convenience and accessibility as investors will no more be required to call or visit a physical office to place trades, which is often inconvenient and time-consuming.

The SECP encourages the entrepreneurs and individuals to undertake the brokerage business under this regime. For more information about the Online Only Broker license and the application process, interested applicants may visit the PSX website at www.psx.com.pk.

ایس ای سی پی نے صرف 'آن لائن' بروکرز کے لئے ریگولیٹری فریم ورک متعارف کروادیا

اسلام آباد، 3 مئی: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے، آن لائن سرمایہ کاری کے پلیٹ فارمز کی بڑھتی ہوئی مانگ کو مدد نظر رکھتے ہوئے اب پاکستان میں بھی صرف آن لائن ٹریڈنگ سروس فراہم کرنے والے سیکیورٹیز بروکرز کے لیے ریگولیٹری فریم ورک کی منظوری دے دی ہے۔ اس مقصد کے لئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رولز بک میں ترامیم منظور کر لی گئیں ہیں۔ آن لائن بروکرز سیکیورٹیز مارکیٹ میں جدت اور سرمایہ کاری کو سہل بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔

مجوزہ نئے ریگولیٹری فریم ورک میں سرمایہ کاروں کے اکاؤنٹ آن لائن کھولے جائیں گے اور بروکرز اپنے صارفین کو ٹریڈنگ خدمات بھی آن لائن ہی فراہم کریں گے۔ صرف آن لائن خدمات فراہم کرنے والے بروکرز، ٹریڈنگ بروکرز کے زمرہ میں ہی کام کریں گے جبکہ ان کی ٹریڈنگ کی کلیئرنگ بھی پروفیشنل کلیئرنگ بروکرز ہی انجام دیں گے۔ آن لائن بروکرز کے لئے ریگولیٹری کمپلائنس اور آپریشنل تقاضے کافی حد تک محدود ہوں گے۔

صرف آن لائن بروکرز کے لیے لائسنس کی فیس پچاس ہزار روپے جبکہ تجدید کی فیس پچیس ہزار روپے مقرر کی گئی ہے۔ آن لائن بروکرز کے لئے کم از کم نیٹ ورتھ 75 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ سنگل ممبر کمپنیاں بھی آن لائن بروکرز کی خدمات فراہم کرنے کی اہل ہو سکیں گی۔ اس نئے فریم ورک کے تحت نئے کاروباری افراد کم ابتدائی لاگت اور محدود آپریشنل اخراجات کے ساتھ بروکر تاج کے خدمات کے کاروبار سے منسلک ہو سکیں گے۔ موجودہ بروکرز اپنے اوپری اخراجات کو کم کرنے اور ٹریڈنگ پر توجہ مرکوز رکھنے کے لیے اس نئے فریم ورک سے مستفید ہو سکتے ہیں۔

توقع کی جاتی ہے کہ آن لائن بروکرز دستیاب ہونے سے کیپیٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری نہایت آسان ہو جائے گی اور زیادہ سے زیادہ سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔